

وَ النَّازِعَاتِ غَرَقًا (1) وَ النَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2) وَ
السَّابِحَاتِ سَبْحًا (3) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4)
فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6)
تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٌ يَوْمئِذٍ وَاجِفَةٌ (8)
أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي
الْحَافِرَةِ (10) أِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11) قَالُوا
تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (12) فإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
(13) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ
مُوسَى (15) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى
(16) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17) فَقُلْ هَلْ
لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18) وَ أَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ
فَتَخْشَى (19) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى (20) فَكَذَّبَ وَ

عَصَى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22) فَحَشَرَ فَنَادَى

(23) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (24) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ

الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (25) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن

يَخْشَى (26)

By the (angels) who tear out (the souls of the wicked) with violence; by those who gently draw out (the souls of the blessed); and by those who glide along (on errands of mercy), then press forward as in a race, then arrange to do (the commands of their Lord),—the day everything that can be in commotion will be in violent commotion, followed by oft-repeated (commotions): hearts that day will be in agitation; cast down will be (their owners') eyes. They say (now): "What! Shall we indeed be returned to (our) former state?—" What!- When we shall have become rotten bones?" They say: "It would, in that case, be a return with loss!" But verily, it will be but a single (compelling) cry, when, behold, they will be brought out to the open. Has the story of Moses reached thee? Behold, thy Lord did call to him in the sacred valley of Tuwa:- "Go thou to Pharaoh for he has indeed transgressed all bounds: "And say to him, 'Wouldst thou that thou shouldst be purified (from sin)?- 'And that I guide thee to thy Lord, so thou shouldst fear Him?' Then did (Moses) show him the great sign. But (Pharaoh) rejected it and disobeyed (guidance); further, he turned his back, striving hard (against Allah). Then he collected (his men) and made a proclamation,

~~~~~  
saying, "I am your Lord, Most High". But Allah did punish him,  
(and made an) example of him,- in the hereafter, as in this life.  
Verily in this is a lesson for whosoever feareth (Allah).

قسم ہے اُن (فرشتوں کی) جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، اور آہستگی سے نکال لے جاتے

ہیں، اور (اُن فرشتوں کی جو کائنات میں) تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر

(حکم بجالانے میں) سبقت کرتے ہیں، پھر (احکام الہی کے مطابق) معاملات کا

انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور

جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اُس روز خوف سے کانپ رہے ہوں

گے، نگاہیں اُن کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں "کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر

واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟"

کہنے لگے "یہ واپسی تو پھر بڑے گھائے کی ہوگی!" حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ

ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا

تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس کے رب نے اُسے طویٰ کی

مقدس وادی میں پکارا تھا کہ "فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس

سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب



کی طرف تیری رہنمائی کروں تو (اُس کا) خوف تیرے اندر پیدا ہو؟" پھر موسیٰؑ

نے (فرعون کے پاس جا کر) اُس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اُس نے جھٹلادیا اور نہ

مانا، پھر چالبازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا

"میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔" - آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے

عذاب میں پکڑ لیا۔ درحقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اُس شخص کے لیے جو

ڈرے۔

کس مہم ہے ان (فرشتوں) کی جو ڈبک کر خلیتے ہیں، اور آہستہ سے نیکال لے جاتے ہیں، اور (ان فرشتوں کی جو کائنات میں) تہی سے تہرے فیرتے ہیں، فیر (ہکم بجا لانے میں) سبکدات کرتے ہیں، فیر (اہکامہ-إلاہی کے متابیک) ماملات کا اینتجام چلاتے ہیں | جس روج ہلا مارےگا جلالے کا اڑتکا اور اسکے پیٹھے اک اور اڑتکا پڑےگا، کٹھ دیل ہوںے جو اس روج خوں سے کوں رہے ہوںے، نیگاہے انکی سہمی ہڈی ہوںے | ے لوج کہتے ہیں، "کیا واکڑی ہم پلٹاکر فیر واپس لاء جائوںے؟ کیا جب ہم خوخلی بوسیڈا ہڈیوں بن چکے ہوںے؟" کہنے لے، "یہ واپسی تو فیر بڈے ڈاٹے کی ہوںے | ہالوںکے یہ بس اینا کام ہے کی جوں کی ڈاٹ پڑےگی اور یکایک ے خولے مئدان میں مؤجود ہوںے | کیا تومنہ ماسا کے کيسے کی خبر پھونھی ہے؟ جب رب نے اسے 'توا' کی مؤکدس وادی میں پوکارا آا کی "فیراؤن کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسسے کہ: کیا



~~~~~

तू इसके लिए तैयार है कि पाकीज़गी इखतियार करे और मैं तेरे रब की तरफ़ तेरी रहनुमाई करूँ तो (उसका) खौफ़ तेरे अन्दर पैदा हो?” फिर मूसा ने (फ़िरऔन के पास जाकर) उसको बड़ी निशानी दिखाई, मगर उसने झुटला दिया न माना, फिर चालबाज़ियाँ करने के लिए पलटा और लोगों को जमा करके उसने पुकार कर कहा, “मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ |” आख़िरकार अल्लाह ने उसे आख़िरत और दुनिया के अज़ाब में पकड़ लिया | दर हकीकत इसमें बड़ी इबरत है हर उस शख्स के लिए जो डरे |